

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں:

- (1)--- مسجد میں مدرسہ کی ترتیب بھی ہے، مسجد کی بجلی، گیس طلبہ کے استعمال میں بھی آرہے ہیں، تو کچھ ماہ بل کی ادائیگی مسجد کے پیسوں سے ہو اور کچھ ماہ مدرسہ کے پیسوں سے، تو آیا ایسا کرنا جائز ہے؟
- (2)--- مسجد کا زائد پانی ذاتی ضرورت میں لانا، یا محلے والوں کا اس پانی کو گھر لے کر جانا جائز ہے یا نہیں؟

(3)--- عدت والی عورت اپنے محرم کی شادی میں جاسکتی ہے نہیں؟

المستفتی: محمد خالد حنفی (بمعرفت مولانا مفتی محمد سلام صاحب زید مجاہد)۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الجواب حامدًا ومصليًا

(1)--- واضح رہے کہ جب مسجد و مدرسہ ایک دوسرے کے تابع ہوں اور چندہ دہندگان کی طرف سے عرفاً ایک کی آمدنی دوسرے میں صرف کرنے کی اجازت ہو تو مدرسہ کی آمدنی سے مسجد کا بل اور مسجد کی آمدنی سے مدرسہ کا بل ادا کر سکتے ہیں۔

(2)--- مسجد کا پانی اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا یا محلے والوں کا لے جانا جائز نہیں۔

(3)--- عدت والی عورت کے لیے شادی میں جانا جائز نہیں، خواہ محرم کی شادی کیوں نہ ہو۔

لما في البحر الرائق:

"ويجوز الدرّس بسراج المسجد إن كان موضوعا فيه لا للصلاة بأن فرغ

القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه، قالوا لا بأس بأن

يدرّس بنوره إلى ثلث الليل لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس به =

جاری ہے۔۔۔

=فلا يبطل حقه بتعجيلهم وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخيرها فلا يكون لهم
حق الدرس" (كتاب الوقف: ٥/ ٤٢٠، ط: مكتبة رشيدية، كوئته)
وفي الحلبي:

"فالحصل: أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم إهانتها
وتلويتها مما ينبغي التنظيف منه، ولم تب لأعمال الدنيا ولو لم يكن توهم تلويتها
وإهانة على ما أشار إليه قوله عليه السلام: ﴿فإن المساجد لم تُبن لهذا﴾ فما كان
فيه نوع عبادة وليس فيه إهانة ولا تلويت لا يكره ولا يكره" (فصل في أحكام
المساجد: ص: ٥٢٧، ط: نعمانية، كوئته)

وفي الدر المختار:

ويدخل في وقف المصالح قيم... إمام خطيب والمؤذن يعبر
الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشترط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس
ووقاد وفراش ومؤذن وناظر، وثمان زيت وقناديل وحصر وماء وضوء
وكلفة نقله للميضاة فليس مباشر وشاهد، وشاد، وجاب، وخازن كتب من
الشعائر، فتقيدهم في دفتر المحاسبات ليس شرعي"

(كتاب الوقف: ٦/ ٥٦٩، ٥٧٠، ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان)

وفي الأشباه والنظائر:

"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي
في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة" (كتاب الوقف: ص: ١٦٣،
ط: مكتبة رشيدية، كوئته)

وفي فتاوى قاضيخان:

"وقف له متول ومشرف لا يكون للمشرف أن يتصرف في مال الوقف =

جاری ہے۔۔۔



=لأن ذلك مفوض إلى المتولي و المشرف مأمور بالحفظ لا غير"
(كتاب الوقف: ٣/ ٢٠٧، ط: دار الفكر، بيروت، لبنان)

وفي الدر المختار:

"(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان
منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد
كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه"

(كتاب الطلاق: باب العدة: فصل في الحداد: ٥/ ٢٢٥،

ط: دار المعرفة، بيروت، لبنان) فـ _____ ط

والله تعالى أعلم بالصواب

كتبه: عثمان غني عفي عنه

المتخصص في الفقه الإسلامي

بالجامعة الفاروقية كراتشي

١٧/٠٢/١٤٤٣هـ - ٢٥/٠٩/٢٠٢١م

الحجوة صحیح
اسمک
١٤/٢/٢٠٢٣

الحجوة صحیح
اسمک
١٤/٢/٢٠٢٣

